

[ AS INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY]

A

BILL

*further to amend certain tax laws*

WHEREAS, it is expedient further to amend certain tax laws, in the manner and for the purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows: —

1. **Short title and commencement.** — (1) This Act shall be called the Tax Laws (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall, unless provided otherwise, come into force at once.

2. **Amendments of Sales Tax Act, 1990.** — (1) In the Sales Tax Act, 1990, the following further amendments shall be made, namely: —

(1) in section 8B, in sub-section (4), after the full stop at the end, the following shall be added, namely: —

“In order to limit input tax allowance, the Board may also use data based automated risk management system to defer certain input tax or fix higher or lower limits of input tax adjustment:

Provided that the registered person may contest the action taken under this sub-section by filing application and documents with the Commissioner concerned, who shall decide the case within sixty days of such application.”

(2) after section 14AB, the following new sections shall be inserted, namely: —

“14AC. **Bar on operations of Bank Accounts.** — (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Commissioner shall have the powers to direct banking companies, scheduled banks and other financial institutions, through an order in writing, to bar operation of the bank account of any person who fails to get registered for the purposes of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) upon registration of such person, the Commissioner shall issue and convey order for removal of bar on operation of his bank accounts not later than two working days.

(3) Any person, aggrieved by any decision or order passed under sub-section (1), may within thirty days of the date of receipt of such decision or order prefer an appeal before the Chief Commissioner Inland Revenue.

(4) The provisions of this section shall come into force on such date as the Board may by notification in the official Gazette appoint.

**“14AD. Bar on transfer of Immoveable Property. — (1)** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Commissioner shall have the powers to direct the property registering authority, through an order in writing, to bar transfer of immoveable property of any person who fails to get registered for the purposes of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), upon registration of such person, the Commissioner shall issue and convey order for removal of bar on transfer of immovable property not later than two working days.

(3) any person, aggrieved by any decision or order passed under sub-section (1) may, within thirty days of the date of receipt of such decision or order prefer an appeal before the Chief Commissioner Inland Revenue.

(4) The provisions of this section shall come into force on such date as notified by the Board.

**“14AE: Other coercive actions for non-registration. - (1)** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the

time being in force, any person who fails to get himself registered for the purposes of this Act, the Chief Commissioner shall have the powers to —

- (a) seal the business premises;
- (b) seize moveable property; or
- (c) appoint a receiver for the management of the taxable activity of a person.

(2) Action under sub-section (1) shall not be carried out, unless —

- (a) a public notice is issued specifying the date from which the premises shall be sealed, or movable property is attached, or a receiver is appointed for the management of the taxable activity;
- (b) a committee comprising the Chief Commissioner, the Commissioner concerned, and a representative from the Chambers of Commerce or Trade Bodies, provides an opportunity of being heard to the person through an open court; and
- (c) such decision is made public by placement on the Board's website and newspaper as well.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) upon registration, of such person the Chief Commissioner shall issue and convey order for removal of receiver appointed under sub-section (1) not later than two working days.

(4) Any person, aggrieved by any decision or order passed under sub-section (1), may within thirty days of the date of receipt of such decision or order prefer representation before the Board.

(5) All or any of the provisions of this section shall come into force on such date as the Board may by notification in the official Gazette appoint.

(3) after section 32A, the following new section shall be inserted namely: —

**“32B. Appointment of experts and auditors. —** (1) The Board or the Commissioner may appoint as many experts as it or the Commissioner considers necessary for the purposes of this Act, including for the purposes of assistance in audit, investigation, litigation or valuation.

(2) The Board may appoint as many auditors as it may deem fit, through direct engagement or through a third party including a pay roll firm for the purposes of this Act, and confer such powers as may be deemed necessary to assist the authorities mentioned in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 30 of this Act and clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 29 of the Federal Excise Act, 2005, as per the terms, conditions, limitations and restrictions as may be prescribed.”;

(4) in section 56B, in sub-section (1), after the word “servant”, the expression “, expert or auditor appointed under section 32B” shall be inserted; and

(5) in section 73, in sub-section (4), —

(a) for the expression “aggregate, one hundred million rupees in financial year or ten million rupees”, the words “a financial year or” shall be substituted.

(b) after the word “Act”, the words “as may be specified by the Board through a sales tax general order” shall be inserted; and

(6) The amendments made under clauses (a) and (b) shall take effect from such date as the Board may by notification in the official Gazette appoint.

**3. Amendments of the Islamabad Capital Territory (Tax on Services) Ordinance, 2001 (XLII of 2001). —** In the Islamabad Capital Territory (Tax on

Services) Ordinance, 2001 (XLII of 2001), in section 3, in sub-section (1), in the first proviso, for the semicolon, a colon shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added namely. —

“Provided further that from such date and in such mode and manner, as may be prescribed through a general order by the Board, any service provider as mentioned in Table 1 or Table 2 of the Schedule shall integrate his businesses with the Board’s computerized system for real-time reporting of provision of services.”.

**4. Amendments of The Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001). —**  
In the Income Tax Ordinance, 2001 (XLIX of 2001), the following further amendments shall be made, namely: —

(1) after section 114B, the following new section shall be inserted, namely: —

**“114C. Restriction on economic transactions by certain persons. —** (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, —

- (a) any application, by any ineligible person, for booking, purchase or registration of a motor vehicle, shall not be accepted or processed by any manufacturer of a motor vehicle or vehicle registering authority of Excise and Taxation Department, as the case may be;
- (b) any application or request by any ineligible person, to any authority responsible for registering, recording or attesting transfer of any immovable property, more than such value in aggregate in a tax year as may be notified by the Board from time to time, shall not be accepted or processed by such authority;
- (c) any person, authorized to sell securities including debt securities or units of mutual funds including a person

authorized to open and maintain an account or clear such transactions, shall not sell, open an account or clear sale of securities, mutual funds, to an ineligible person being an individual or an association of persons;

(d) a banking company shall —

(i) not open or maintain an already opened current or a saving bank or investor portfolio securities account, except Asaan account, in the name of such persons as may be notified by the Board;

(ii) not allow cash withdrawal from any of the bank accounts of any person, exceeding the amount as may be notified by the Board from time to time;

(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to —

(a) purchase of rikshaws or motorcycle rikshaws or tractors;

(b) purchase of a pick-up vehicle having engine capacity up to 800 CC;

(c) purchase of such motor vehicles other than those mentioned in clauses (a) and (b), trucks and buses subject to restrictions and limitations as may be notified by the Board from time to time;

(d) investment in securities up to such limit as may be notified by the Board from time to time;

(e) any ineligible person who after filing his return of income for the latest completed tax year, has filed sources of investment and expenditure statement; and

- (g) transactions made by a non-resident person or a public company except that mentioned in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-section (1);
- (3) The sources of investment and expenditure statement filed by the person and sufficient resources mentioned in sub-section (5), shall not be construed as nature and source of income for the purposes of section 111.
- (4) All or any of the restrictions imposed under sub-section (1) shall come into force as the Board may by notification in the official Gazette appoint with the approval of the Federal Government.”
- (5) For the purposes of this section, —
- (a) “*cash equivalent assets*” shall be such assets as may be prescribed;
- (b) “*eligible person*” shall mean a person, who has filed a return of income for the tax year immediately preceding the year of transaction mentioned in sub-section (1) and has sufficient resources in the wealth statement in case of an individual, or financial statement in case of a company or an association of persons, as the case may be, for such transaction:
- Provided that in case of an individual, the eligible person shall include his immediate family members.
- (c) “*immediate family members*” in respect of an individual, shall include his parents, spouse, son (below the age of twenty-five years), daughter (who is unmarried, or widowed, or divorced) or a special child who has a long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment which in interaction with various barriers may hinder his

full and effective participation in society on an equal basis with others;

- (d) “*ineligible person*” shall mean a person who is not an eligible person;
- (e) “*sources of investment and expenditure statement*” shall mean a declaration by a person filed on the Board’s web portal, specifying the sources of funds for making such transaction; and
- (f) “*sufficient resources*” shall mean one hundred and thirty percent of the cash and equivalent assets, declared by a person in his wealth statement filed for the latest tax year or in the case of a company or association of persons cash and equivalent assets, declared in the financial statements attached with the income tax return for the latest tax year.”;

(2) after section 175A, the following new section shall be inserted, namely: —

**“175AA. Exchange of banking and tax information related to high-risk persons.** — (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, including but not limited to the Banking Companies Ordinance, 1962 (LVII of 1962), section 216 of this Ordinance and any regulations made under the State Bank of Pakistan Act, 1956 (XXXIII of 1956), —

- (a) the Board may share information of turnover, income including taxable income, for one or more tax years, identification data including bank account numbers declared in the income tax return, wealth statement, financial statement or in any other document to the Board, in respect of persons or classes of persons, along with data-based algorithms, as may be prescribed, with scheduled banks in Pakistan; and

(b) the Scheduled banks shall provide to the Board particulars, such as name, account numbers of such persons where the banking information is at variance with the data algorithms provided under clause (a) of this sub-section.

(2) All information received under this section shall be used only for tax and related purposes and kept confidential.”;

(3) in section 207, in sub-section (1), —

(a) in clause (k), the word “and” shall be omitted; and

(b) in clause (l), after the semicolon, the word “and” and thereafter the following new clause shall be added, namely: —

“(m) auditor appointed under section 222.”;

(4) in section 216, in sub-section (3), after clause (b), the following new clause shall be inserted, namely: -

“(ba) to an auditor appointed on contractual basis or engaged through a third party including a payroll firm in the Federal Board of Revenue, after a non-disclosure agreement is made with such auditor as may be prescribed, to assist any authority mentioned in clauses (b) to (g) of sub-section (1) of section 207.”; and

(5) in section 222, the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1), numbered as aforesaid, the following new sub-section shall be added, namely: —

“(2) The Board may also appoint as many auditors on contractual basis or through a third-party arrangement, as the case may be, as it deems fit for carrying out the purposes of this Ordinance.”.

5. In the Federal Excise Act, 2005, the following further amendments shall be made, namely: -

(1) in section 26, in sub-section (1), after the word “thereunder”, the expression “or dutiable goods without affixing or affixing counterfeited tax stamps, banderoles, stickers, labels or barcodes, as required under section 45A for monitoring or tracking by electronic or other means” shall be inserted; and

(2) in section 27, –


(a) in sub-section (1), after the word “counterfeiting”, the expression “or such goods without affixing or affixing counterfeited tax stamps, banderoles, stickers, labels or barcodes, as required under section 45A for monitoring or tracking by electronic or other means” shall be inserted; and

(b) after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely: –

“(4) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Board, in case of goods subject to monitoring under section 45A of this Act and counterfeited goods, may authorize any officer or employee of the Federal or Provincial Government to exercise the powers and perform the functions of Officer of Inland Revenue under section 26 and sub-section (1) of section 27, by notification in the official Gazette subject to such conditions, if any, that it may deem fit to impose.”.

### **Statement of Objects and Reasons**

The purpose of this bill is to give effect to the proposals for effective compliance to the tax laws and to ensure that taxes are paid according to income and consumption level, to complete value chain of businesses and generate financial resources for economic development, as proposed by the Federal Government.

  
**Muhammad Aurangzeb**  
Minister for Finance and Revenue

## [ قومی اسمبلی میں پیش کردہ صورت میں ]

### بعض ٹیکس قوانین میں مزید ترمیم

### کرنے کا بل

ہر گاہ کہ، یہ قرین مصلحت ہے کہ بعد ازیں ظاہر ہونے والی اغراض کے لیے اور ایسے طریقہ کار میں، بعض ٹیکس قوانین میں مزید ترمیم کی جائے؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ ٹیکس قوانین (ترمیمی) ایکٹ، ۲۰۲۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ، تا وقتیکہ بصورت دیگر مصرح نہ ہو، فی الوقت نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ سیلز ٹیکس ایکٹ، ۱۹۹۰ء کی ترمیم:- سیلز ٹیکس ایکٹ، ۱۹۹۰ء میں، حسب ذیل مزید ترمیم کی جائیں گی، یعنی:-

(۱) دفعہ ۸ ب کی، ذیلی دفعہ (۴) میں، آخر میں ختمہ کے بعد، حسب ذیل کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:-

”مداخل ٹیکس الاؤنس کو محدود کرنے کے لیے، بورڈ بعض مداخل ٹیکس کو موخر کرنے یا مداخل ٹیکس تسویہ کی زیادہ یا کم حدیں مقرر کرنے کے لیے ڈیٹا پر مبنی خود کار رسک مینجمنٹ کے نظام کا بھی استعمال کر سکے گا:

مگر شرط یہ ہے کہ رجسٹر شدہ شخص متعلقہ کمشنر کے پاس درخواست اور دستاویزات داخل کرواتے ہوئے اس ذیلی دفعہ کے تحت کی گئی کارروائی کا مقابلہ کر سکے گا، جو مذکورہ درخواست کے ساٹھ دنوں کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گا۔“

(۲) دفعہ ۱۴ الف ب کے بعد، حسب ذیل نئی دفعات کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

”۱۴ الف ج۔ بینک اکاؤنٹس کے آپریشنز پر امتناع:- (۱) اس ایکٹ

یانی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، کمشنر کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ تحریری حکم کے ذریعے، بینکار کمپنیوں، جدولی بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کو کسی بھی شخص کے بینک

اکاؤنٹ کے آپریشن سے روکنے کے لیے، ہدایت دے جو اس ایکٹ کے اغراض کے لیے رجسٹرڈ ہونے میں ناکام ہو جائے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں شامل کسی امر کے باوصف، مذکورہ شخص کی رجسٹریشن پر، کمشنر دو ایام کار کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹس کے آپریشن پر امتناع کی برطرفی کے لیے حکم جاری کرے گا اور مطلع کرے گا۔

(۳) کوئی بھی شخص، جو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت صادر کردہ کسی بھی فیصلے یا حکم سے متاثرہ ہو تو، مذکورہ فیصلے یا حکم کی وصولی کی تاریخ سے تیس دنوں کے اندر چیف کمشنر داخلی محاصل کے رُو برو اپیل دائر کر سکے گا۔

(۴) اس دفعہ کے احکامات ایسی تاریخ پر نافذ العمل ہوں گے جیسا کہ بورڈ سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے مقرر کرے۔

”۱۴ الف د۔ غیر منقولہ جائیداد کے انتقال پر امتناع:- (۱) اس ایکٹ یا

فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، کمشنر کو اختیارات حاصل ہوں گے کہ تحریری حکم کے ذریعے، جائیداد رجسٹر کرنے والی اتھارٹی کو کسی بھی شخص کی انتقال غیر منقولہ جائیداد سے روکنے کے لیے ہدایت دے جو اس ایکٹ کی اغراض کے لیے رجسٹر ہونے میں ناکام ہو گیا ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں شامل کسی امر کے باوصف، مذکورہ شخص کی رجسٹریشن پر، کمشنر دو ایام کار کے اندر غیر منقولہ جائیداد کے انتقال پر امتناع کی برطرفی کے لیے حکم جاری کرے گا اور مطلع کرے گا۔

(۳) کوئی بھی شخص، جو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت صادر کردہ کسی بھی فیصلے یا حکم سے متاثرہ ہو تو، مذکورہ فیصلے یا حکم کی وصولی کی تاریخ سے تیس دنوں کے اندر چیف کمشنر داخلی محاصل کے رُو برو اپیل دائر کر سکے گا۔

(۴) اس دفعہ کے احکامات ایسی تاریخ پر نافذ العمل ہوں گے جیسا کہ بورڈ مشترکہ کرے۔

”۱۴ الف ہ۔ غیر رجسٹریشن کے لیے دیگر جبری کارروائیاں:-

(۱) اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوصف، کوئی بھی شخص

جو اس ایکٹ کی اغراض کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروانے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو چیف کمشنر کو

حسب ذیل اختیارات حاصل ہوں گے۔۔

(الف) کاروباری احاطہ کو سبیل کرنا۔

(ب) منقولہ جائیداد کو ضبط کرنا؛ یا

(ج) ایک شخص کی قابل ٹیکس سرگرمیوں کے انصرام کے لیے امین مقرر کرنا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کارروائی نہیں کی جائے، تا وقتیکہ۔۔

(الف) پبلک نوٹس جاری کیا جائے گا جو تاریخ کی صراحت کرے گا جس سے احاطے سیل کیے جائیں گے،

یا منقولہ جائیداد قرق کی جائے گی، یا قابل ٹیکس آمدن کے انصرام کے لیے امین کا تقرر کیا جائے گا؛

(ب) ایک کمیٹی جو چیف کمشنر، متعلقہ کمشنر اور ایوان تجارت یا کاروباری ہتوں سے ایک نمائندہ پر مشتمل

ہوگی، جو کھلی عدالت کے ذریعے اس شخص کو شنوائی کا موقع فراہم کرے گی؛ اور

(ج) مذکورہ فیصلے کو بورڈ کی ویب سائٹ پر ڈال کر اور اسی طرح اخبار میں دے کر عام کیا جائے گا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) میں شامل کسی امر کے باوجود مذکورہ شخص کی رجسٹریشن پر، چیف کمشنر ذیلی دفعہ (۱) کے تحت

دو ایام کار کے اندر تقرر کردہ امین کو ہٹانے کے لیے حکم جاری کرے گا اور مطلع کرے گا۔

(۴) کوئی بھی شخص، جو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کسی فیصلے یا حکم سے متاثرہ ہو تو، مذکورہ فیصلے یا حکم کی وصولی کے

تیس ایام کے اندر بورڈ کے رُوبرُو عرضداشت پیش کر سکے گا۔

(۵) اس دفعہ کے تمام یا کوئی بھی احکامات اس تاریخ سے موثر ہوں گے جیسا کہ بورڈ سرکاری جریدے میں

اعلامیہ کے ذریعے مقرر کرے۔

(۳) دفعہ ۳۲ الف کے بعد، حسب ذیل نئی دفعہ کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی:-

۳۲ب۔ ماہرین اور آڈیٹرز کی تقرری:- (۱) بورڈ یا کمشنر اتنی تعداد میں

ماہرین کا تقرر کر سکے گا جیسا کہ وہ یا کمشنر اس ایکٹ کے اغراض کے لیے موزوں خیال کریں، اس میں

آڈٹ، تحقیق، مقدمہ بازی یا تشخیص مالیت میں معاونت کی اغراض کے لیے شامل ہیں۔

(۲) بورڈ اس ایکٹ کی اغراض کے لیے بلا واسطہ طور پر یا تیسرے فریق کے توسط سے اتنی تعداد میں آڈیٹر کا تقرر

کر سکتا ہے جیسا کہ وہ موزوں خیال کرے، جس میں پے رول فرم بھی شامل ہے، اور ایسے اختیارات تفویض کر سکتا ہے جیسا کہ

اس ایکٹ کی دفعہ ۳۰ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (الف) تا (و) اور فیڈرل ایکسٹرا ایکٹ، ۲۰۰۵ء کی دفعہ ۲۹ کی ذیلی دفعہ (۱)

کی شقات (الف) تا (و) میں درج اتھارٹیز کی معاونت کے لیے ضروری خیال کرے۔ ایسی قیود و شرائط، تحدیدات اور

پابندیوں کے تابع جیسا کہ صراحت کیا جاسکتا ہے۔“

(۴) دفعہ ۵۶ ب کی، ذیلی دفعہ (۱) میں، لفظ ”ملازم“ کے بعد، عبارت ”، دفعہ ۳۲ ب کے تحت تقرر کردہ ماہر یا

آڈیٹر“ کو شامل کر دیا جائے گا؛ اور

(۵) دفعہ ۷۳ میں، ذیلی دفعہ (۴) میں،۔۔

(الف) عبارت ”مجموعی طور پر، مالی سال میں ایک سو ملین یا دس ملین روپے“ کو، الفاظ ”ایک مالی سال یا“ سے تبدیل کر دیا جائے گا۔

(ب) لفظ ”ایکٹ“ کے بعد، الفاظ ”جیسا کہ سیزڈ ٹیکس جنرل آرڈر کے ذریعے بورڈ مختص کر سکتا ہے“ کو، شامل کر دیا جائے گا؛ اور

(۶) شقات (الف) اور (ب) کے تحت وضع کردہ ترامیم ایسی تاریخ سے موثر ہوں گی جیسا کہ بورڈ سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے مقرر کرے۔

۳۔ دارالحکومت اسلام آباد (خدمات پرائیکس) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (۴۲ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی ترامیم:-

دارالحکومت اسلام آباد (خدمات پرائیکس) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۴۲ مجریہ ۲۰۰۱ء) کی، دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۱)، کے پہلے فقرہ شرطیہ میں، وقفہ، کو، رابطہ سے تبدیل کر دیا جائے اور بعد ازاں حسب ذیل فقرہ شرطیہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی:-

”مگر مزید شرط یہ ہے کہ ایسی تاریخ سے اور ایسے اسلوب اور طریقہ کار میں، جیسا کہ بورڈ کی جانب سے عمومی حکم کے، ذریعے صراحت کر دی گئی ہو، کوئی بھی خدمت فراہم کنندہ، جیسا کہ جدول کے ٹیبل ایٹیمبل ۲ میں بیان کیا گیا ہے، اپنے کاروبار کو بورڈ کے کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے ساتھ فراہمی خدمات کی فی الوقت رپورٹنگ کے لیے منسلک کرے گا۔“

۴۔ محصول آمدنی آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۴۹ مجریہ ۲۰۰۱ء)۔۔

محصول آمدنی آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (نمبر ۴۹ مجریہ ۲۰۰۱ء)، میں، حسب ذیل مزید ترمیمات کی گئیں ہیں، یعنی:-

(۱) دفعہ ۱۱۴ ب کے بعد، حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی:-

”۱۱۴ ج۔ بعض اشخاص کی جانب سے معاشی لین دین پر پابندی:- (۱) فی الوقت

نافذ العمل کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی امر کے باوجود،۔۔

(الف) کسی بھی نااہل شخص کی جانب سے، موٹر گاڑی کی بکنگ، خریداری یا رجسٹریشن کے لیے، کوئی بھی

درخواست، کسی بھی موٹر گاڑی کے تیار کنندہ یا محکمہ ایکسائز محصولات برائے گاڑی رجسٹریشن

اتھارٹی، جیسی بھی صورت ہو، کی جانب سے قبول یا اس پر ضروری قانونی کارروائی نہیں کی جائے

گی؛

(ب) کوئی بھی اتھارٹی جو غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کی رجسٹریشن، ضابطہ تحریر میں لانے یا تصدیق کرنے

کے لیے ذمے دار ہو کو، کسی بھی نا اہل شخص کی جانب سے کوئی بھی درخواست یا استدعا جو سال محصول میں مجموعی طور پر ایسی مالیت، جو بورڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً اعلان میں درج کردہ ہو، سے زیادہ ہو تو، مذکورہ اتھارٹی کی جانب سے قبول یا اس پر ضروری قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی:

(ج) کوئی بھی شخص جو سکیورٹیز (حصص) فروخت کرنے کا مجاز ہو اس میں ڈیٹ سکیورٹیز یا میوچل فنڈز کی اکائیاں شامل ہیں اس میں اکاؤنٹ کھولنے اور برقرار رکھنے یا اس طرح کے مالی لین دین کو بے باق کرنے والا مجاز شخص شامل ہے جو کسی نا اہل شخص واحد یا انجمن اشخاص کو سکیورٹیز، میوچل فنڈ کی فروخت، اکاؤنٹ کھولنے یا ان کی فروخت کو بے باق نہیں کرے گا؛

(د) کوئی بینک کارکن اپنی درج ذیل امور انجام نہیں دے گی۔۔

(اول) پہلے سے کھولے ہوئے کرنٹ (جاری) یا سیونگ بینک (بچت بینک) یا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ، علاوہ ازیں آسان اکاؤنٹ کہ، ایسے اشخاص کے نام کھولے یا برقرار نہیں رکھے گی جن کے بارے میں بورڈ نے مطلع کیا ہو؛

(دوم) کسی بھی شخص کو کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے ایسی رقم سے زیادہ جس کا بورڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً مطلع کیا گیا ہو نقد رقم نکلوانے کی اجازت نہیں دے گی؛

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے احکامات کا حسب ذیل پر اطلاق نہیں ہوگا۔۔

(الف) رکشوں یا موٹر سائیکل رکشوں یا ٹریکٹروں کی خریداری پر؛

(ب) ۸۰۰ سی سی تک انجن کی صلاحیت رکھنے والی پک اپ گاڑی کی خریداری پر؛

(ج) شقات (الف) اور (ب) میں بیان کردہ کے علاوہ ایسی موٹر گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں کی خریداری ایسی پابندیوں اور حدود سے مشروط ہوگی جیسا کہ بورڈ کی جانب سے مطلع کیا جائے؛

(د) سکیورٹیز میں اس حد تک سرمایہ کاری جیسا کہ بورڈ کی جانب سے وقتاً فوقتاً مطلع کیا جائے؛

(ہ) کوئی بھی نا اہل شخص جس نے حالیہ پورے سال محصول کے لیے اپنی آمدنی کا گوشوارے جمع کرانے کے بعد، ذرائع سرمایہ کاری اور اخراجات کے گوشوارے جمع کروائے؛ اور

(و) غیر سکونت شخص یا پبلک کمپنی کی جانب سے کیے گئے مالی لین دین علاوہ ازیں اُس کے کہ جن کا ذیلی دفعہ (۱) کی شق (د) کی ذیلی شق (دوم) میں بیان کیا گیا ہے۔

(۳) کسی شخص کی طرف سے جمع کروائے گئے سرمایہ کاری اور اخراجات کے گوشواروں کے ذرائع اور ذیلی دفعہ (۵)

میں بیان کردہ مناسب وسائل سے، دفعہ ۱۱۱ کی اغراض کے لیے فطری اور ذرائع آمدن کے طور پر متصور نہیں کیا جائے گا۔

(۴) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت عائد کردہ تمام یا کوئی بھی پابندی اس تاریخ سے نافذ العمل ہو جائے گی جیسا کہ بورڈ

سرکاری جریدے میں وفاقی حکومت کی منظوری کے ساتھ مقرر کرے گا۔“

(۵) اس دفعہ کی اغراض کے لیے،۔

(الف) ”نقد مساوی اثاثہ جات“ ایسے اثاثہ جات ہوں گے جیسا کہ صراحت کر دی گئی ہو؛

(ب) ”اہل شخص“ سے وہ شخص مراد ہے، جس نے ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کردہ مالی لین دین کے فوری سابقہ

سال محصول کے لیے مالی گوشوارے جمع کروائے ہوں اور ایسے مالی لین دین کے لیے کسی شخص واحد

کی صورت میں گوشوارہ آمدنی، یا کمپنی یا انجمن اشخاص جیسی بھی معاملے کی نوعیت ہو، کی صورت میں

مالی گوشوارے جمع کروائے ہوں۔

مگر شرط یہ ہے کہ شخص واحد کی صورت میں، اہل شخص میں اس کے قریبی خاندان کے اشخاص

شامل ہوں گے۔

(ج) ”قریبی خاندان کے اشخاص“ میں شخص واحد کے حوالے سے اسکے والدین، شریک حیات،

بیٹا (بچپس سال سے کم عمر)، بیٹی (جو غیر شادی شدہ، بیوہ، یا طلاق یافتہ ہو) یا خصوصی بچہ جو

طویل المدت سے جسمانی، ذہنی، فہم و فراست یا عقل سے معذور ہو جو مختلف رکاوٹوں کے ساتھ باہمی

عمل میں معاشرے میں اسکی دوسروں کے ساتھ مساوی بنیادوں پر مکمل فعال شرکت میں رکاوٹ

ہو، شامل ہیں؛

(د) ”نااہل شخص“ سے وہ شخص مراد ہے جو اہل شخص نہ ہو؛

(ه) ”ذرائع سرمایہ کاری و گوشوارہ اخراجات“ سے کسی شخص کی جانب سے بورڈ کے ویب پورٹل پر جمع

کروایا گیا اقرار نامہ جس میں ایسے مالی لین دین کے لیے فنڈز کے ذرائع کی وضاحت کی گئی ہو

مراد ہے؛ اور

(و) ”مناسب وسائل“ سے ایک سو تیس فیصد نقد رقم اور اسکے مساوی اثاثہ جات مراد ہیں، جو کسی شخص کی

جانب سے تازہ ترین سال محصول کے لیے اپنے گوشوارہ آمدنی میں جمع کروائے گئے ہوں یا کمپنی یا

انجمن اشخاص کے معاملے میں نقد رقم اور مساوی اثاثہ جات، جو تازہ ترین سال محصول کے لیے

محصول آمدنی گوشوارے کے ساتھ منسلک مالی گوشوارے میں ظاہر کیے گئے ہوں۔“

(۲) دفعہ ۱۷۵ الف کے بعد، حسب ذیل نئی دفعہ شامل کر دی جائے گی، یعنی:-

”۱۷۵ الف۔ ہائی رسک (انتہائی اہم) اشخاص سے متعلق بینک کاری اور

ٹیکس معلومات کا تبادلہ:- (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی امر

کے باوجود، اس میں بینک کارکنیات آرڈیننس، ۱۹۶۲ (نمبر ۵۷ مجریہ ۱۹۶۲ء)، اس آرڈیننس کی دفعہ ۲۱۶ اور بینک دولت پاکستان ایکٹ، ۱۹۵۶ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۵۶ء) کے تحت وضع کردہ کوئی بھی ضوابط شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں،۔۔

(الف) بورڈ پاکستان میں جدولی بینکوں کے ساتھ منافع، ایک یا اس سے زیادہ سال محصول کے لیے، آمدنی بشمول قابل محصول آمدنی، نشاندہی ڈیٹا بشمول محصول آمدنی گوشوارے میں ظاہر کردہ بینک اکاؤنٹ کی تعداد، گوشوارہ دولت، مالی گوشوارہ یا اشخاص یا اشخاص کی جماعت، کی نسبت بورڈ کو جمع کروائی گئیں کوئی بھی دیگر دستاویز، کے ہمراہ ڈیٹا کی بنیاد پر طے شدہ ترتیب کے ساتھ، جیسا کہ صراحت کر دی گئی ہو، معلومات کا تبادلہ کر سکے گا؛ اور

(ب) جدولی بینک بورڈ کو تفصیلات فراہم کرے گا جیسا کہ مذکورہ شخص کا نام، اکاؤنٹ نمبر جہاں بینکنگ کی

معلومات اس ذیلی دفعہ کی شق (الف) کے تحت فراہم کردہ ڈیٹا کی ترتیب سے مختلف ہوں۔

(۲) اس دفعہ کے تحت موصول شدہ تمام معلومات صرف محصول اور متعلقہ اغراض کے لیے استعمال کی جائیں گی

اور ازداری میں رکھی جائیں گی؛“

(۳) دفعہ ۲۰۷ میں ذیلی دفعہ (ل) میں۔۔

(الف) شق (ک) میں لفظ ”اور“ حذف کیا جائے گا؛ اور

(ب) شق (ل) میں سکتہ کے بعد لفظ ”اور“ اور اس کے بعد حسب ذیل نئی شق کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی:-

”(م) دفعہ ۲۲۲ کے تحت تقرر کردہ آڈیٹر؛“

(۴) دفعہ ۲۱۶ میں ذیلی دفعہ (۳) میں شق (ب) کے بعد حسب ذیل نئی شق کا اندراج کیا جائے گا؛ یعنی

”(ب الف) دفعہ ۲۰۷ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (ب) تا (ز) میں درج شدہ کسی بھی اتھارٹی کی

معاونت کے لیے؛ معاہداتی بنیاد پر تقرر کردہ یا فریق سوم بشمول وفاقی بورڈ آف ریونیو

کے پے رول پر رکھا گیا آڈیٹر، مذکورہ آڈیٹر کے ساتھ ناقابل افشائے معاہدے کے بعد  
جیسا کہ صراحت کیا گیا ہو؛ اور

(۵) دفعہ ۲۲۲ میں، موجودہ دفعہ کو بطور ذیلی دفعہ (۱) دوبارہ نمبر دیا جائے گا، اور ذیلی دفعہ (۱) کے بعد، جیسا کہ مذکورہ  
بالا طور پر دوبارہ نمبر دیا گیا ہے، حسب ذیل نئی ذیلی دفعہ کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی:-

”(۲) اس آرڈیننس کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے بورڈ معاہداتی بنیادوں پر یا فریق ثالث

معاہدے کے ذریعے، جیسی بھی صورت ہو اتنے ہی آڈیٹرز کا تقرر کر سکے گا جیسا کہ یہ ضروری سمجھے“

۵۔ وفاقی ایکسٹرا ایکٹ ۲۰۰۵ء میں حسب ذیل مزید ترمیمات کی جائیں گی یعنی:- (۱) دفعہ ۲۶ میں، ذیلی  
دفعہ (۱) میں لفظ ”اس کے تحت“ عبارت ”یا قابل حصول اشیاء جعلی محصول کی مہریں، فیتے، اسٹیکرز، لیبلز یا بارکوڈز چسپاں کر  
کے یا چسپاں کیے بغیر جیسا کہ دفعہ ۴۵ الف کے تحت برقی یا دیگر ذرائع سے نگرانی یا کھوج لگانے کے لیے درکار ہو“ کا اندراج کیا  
جائے گا؛ اور

(۲) دفعہ ۲۷ میں --

(الف) ذیلی دفعہ (۱) میں لفظ ”جعل سازی“ کے بعد عبارت ”یا مذکورہ اشیاء محصول کی مہریں، فیتے،

اسٹیکرز، لیبلز یا بارکوڈز چسپاں کیے بغیر یا چسپاں کر کے جیسا کہ دفعہ ۴۵ الف کے تحت برقی یا دیگر

ذرائع سے نگرانی یا کھوج لگانے کے لیے درکار ہوں“ کا اندراج کیا جائے گا؛ اور

(ب) ذیلی دفعہ (۳) کے بعد حسب ذیل نئی دفعہ کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی:-

”(۴) اس دفعہ کے مذکورہ بالا احکامات کو مضرت پہنچائے بغیر بورڈ اس ایکٹ کی دفعہ ۴۵ الف کے

تحت نگرانی سے مشروط اشیاء اور جعلی اشیاء کے لیے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے

کسی بھی آفیسر یا ملازم کو ان لینڈ ریونیو کے دفعہ ۲۷ کی ذیلی دفعہ (۱) اور دفعہ ۲۶ کے تحت

اختیارات استعمال کرنے اور کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ایسی شرائط سے مشروط،

اگر کوئی ہو جیسا کہ یہ اطلاق کے لیے موزوں سمجھے سرکاری جریدے میں اعلان کے

ذریعے مجاز کر سکے گا۔“

## بیان اغراض و وجوہ

اس بل کا مقصد محصول کے قوانین کی موثر تعمیل کی تجاویز کو موثر بنانے محصول کی آمدن اور استعمال کی سطح پر ادائیگی یقینی بنایا جانا، کاروبار کی ویلیو چین کو مکمل کرنے اور معاشی ترقی کے لیے معاشی ذرائع پیدا کرنا جیسا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تجویز کیے گئے ہیں۔

محمد اورنگزیب

وزیر خزانہ و محصول